

نئے سوالات کے جوابات (دسمبر) - 9 / Dec / 2019

تعلقات کے ذریعے نوکری حاصل کرنا

سوال 1: اگر کوئی تعلقات تکبیرنا پر ملازمت حاصل کرے، کیا اسکی تنخواہ حرام ہے؟

جواب: جس ملازمت میں لگا ہو، اگر اس کے لئے مطلوبہ مہارت رکھنے کے ساتھ مقررہ قوانین و ضوابط کی رعایت کی گئی ہو اور فرائض منصبی کی انجام دہی کی قابلیت کے مطابق اس کو تنخواہ دی جارہی ہو تو اس کی تنخواہ حرام نہیں ہے۔

عورت کے عطیہ شدہ تولیدی خلیہ (Ovum) کا استعمال

سوال 2: اگر کوئی عورت تولیدی خلیہ (بیضہ یا انڈوں) میں تولید کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے حاملہ نہیں ہوسکتی ہو تو کیا وہ رحم سے باہر شوہر کے نطفے سے تلیح کے لیے کسی اور عورت کے انڈے (تولیدی خلیہ، Ovum) استعمال کرسکتی ہے تاکہ اس لقاح شدہ نطفے کو اس کی رحم میں منتقل کیا جاسکے؟ اگر اس طرح سے کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ کس کا ہوگا؟

جواب: اس عمل میں بذات خود کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ حرام مقدمات (جیسے کہ نامحرم یا اس کی شرمگاہ کو دیکھنے اور چھونے وغیرہ) سے پرہیز کیا جائے اور اس طریقے سے بچہ پیدا ہونے کی صورت میں وہ بچہ نطفہ والے مرد اور بیضہ یا تخمک والی عورت کا ہوگا اور اس کا صاحب رحم خاتون سے ملنا مشکل ہے۔ لہذا نسب کے احکام میں احتیاط کرنا ہوگی، مگر یہ کہ رحم والی خاتون بچے کی پیدائش کے بعد اسے رضاع کی شرائط کے مطابق دودھ پلائے، ایسی صورت میں بچے، عورت کے شوہر اور عورت کے رشتہ داروں کے درمیان رضاع کے احکام جاری ہوں گے۔

وہ مال جو خمس کی تاریخ کے کچھ دن گزرنے کے بعد خرچ کیا جائے

سوال 3: کیا ہر سال کی آمدنی کو صرف خمس کی تاریخ تک خرچ کرنا جائز ہے یا مکلف اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اسی سال کی آمدنی کو - خمس ادا کرنے سے پہلے - خمس کی تاریخ کے کچھ دن بعد بھی خرچ کرسکتا ہے؟

جواب: اسی سال کی آمدنی کو خمس کی تاریخ پہنچنے کے بعد بھی دو سے تین دن تک استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سونا کرایہ پر دینا

سوال 4: کیا ایک کلو سونا یا سونے کی اینٹ (Gold Bullion) یا سونے کے سکے کو کرایہ پر دے کر مثلاً ماہانہ تیس ہزار روپیہ لیے جاسکتے ہیں اور یہ کہ سال یا معاہدے کے ختم ہونے پر سونا واپس لے لیا جائے؟

جواب: سونے کو کرایہ (اجارہ) پر دینا اس وقت صحیح ہے کہ جب معاہدے کی معینہ مدت میں عین (خود سونا) باقی رہے - یعنی خود سونے کی لین دین نہ ہو - اور اس کی منفعت (مثلاً شادی بیاہ وغیرہ میں پہننا) سے استفادہ کیا جائے ورنہ اجارہ صحیح نہیں ہے۔

تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا

سوال 5: کیا نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ہاتھوں کو چہرے کے سامنے تک اٹھانا ضروری ہے؟

جواب: نمازی کے لئے تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں یا چہرے کے برابر تک لے جانا مستحب ہے، اس طرح کہ تکبیر کے شروع میں ہاتھوں کو (جبکہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی اور ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو) بلند کرے اور تکبیر ختم ہونے کے بعد ہاتھوں کو کان یا چہرے کے برابر پہنچائے۔

مکہ اور مدینہ میں تخییر کی حدود

سوال 6: مکہ اور مدینہ میں مسافر کے لئے نماز کو قصر یا پورے پڑھنے میں اختیار کا حکم صرف مسجد الحرام اور مسجد النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے ساتھ مختص ہے یا مکہ اور مدینہ کے پورے شہر میں یہ حکم ہے؟ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ یہ دو شہر پہیل چکے ہیں، نئے علاقوں کے متعلق کیا حکم ہے؟

جواب: تخییر کا حکم مکہ اور مدینہ کے پورے شہر میں ہے اور صرف مسجد الحرام اور مسجد النبی (صلی اللہ علیہ و آلہ) کے ساتھ خاص نہیں ہے لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ صرف ان دو مسجدوں پر اکتفا کیا جائے اور شہر مکہ اور مدینہ سے مراد قدیمی شہر نہیں بلکہ موجودہ شہر ہیں۔

مسجد کوفہ میں تخییر کا حکم

7: کیا آپ جانتے ہیں۔۔۔

مسجد کوفہ میں مسافر کے لئے نماز کو قصر یا پوری پڑھنے میں اختیار کا حکم مسجد کوفہ کے ساتھ مخصوص ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر کوفہ شہر میں مسافر کے لئے تخییر کا حکم نہیں ہے۔

تخییر کے مقامات پر روزہ رکھنا

سوال 8: ان مقامات میں کہ جہاں مسافر کو نماز قصر اور تمام میں اختیار ہے کہ جسے چاہے پڑھے، جیسے کہ مسجد کوفہ، مسجد الحرام اور مسجد النبی (صلی اللہ علیہ والہ)، کیا اسے روزے کے متعلق بھی یہ اختیار حاصل ہے؟

جواب: تخییر والی چار جگہوں میں حکم نماز سے مختص ہے اور مسافر ان جگہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔

نماز ظہر کو قصر اور نماز عصر کو تمام پڑھنا

سوال 9: کیا ہم تخییر کے مقامات پر نماز ظہر کو قصر اور نماز عصر کو تمام پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: کوئی حرج نہیں ہے۔

نماز کے دوران نیت کو قصر سے تمام میں تبدیل کرنا

10: تخییر کے مقامات پر اگر مسافر ابتدا میں قصر کینیت کر لے لیکن نماز کے دوران تمام کینیت کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس کینماز صحیح ہے۔

تخییر کے مقامات پر نماز کے دوران قصر اور تمام کی نیت

11: تخییر کے مقامات پر اگر مسافر قصر اور تمام کینیت کے بغیر نماز شروع کرے اور تیسری رکعت کے لئے اٹھنے سے پہلے قصر کینیت کر کے نماز کو دور کعتی پڑھے یا دوسری رکعت کے تشہد کے دوران سلام پڑھنے سے پہلے تمام کینیت کر کے نماز کو چار رکعتی پڑھے لے تو کوئی حرج نہیں ہے اور نماز صحیح ہے۔